

JUZ 1 Part 1

PRACTICE WORD SURAH AL FATIHA 1-7

ساتھ نام	بِ + سَم	بِسْمِ
اللہ کے	اللہ	اللہ
بڑا مہربان // نہایت رحم والا	ال + رَحْمَن // الرَّحِيم	الرَّحْمَن // الرَّحِيم
ہم عبادت کرتے ہیں	نَعْبُدُ	نَعْبُدُ
ہم مدد مانگتے ہیں	نَسْتَعِينُ	نَسْتَعِينُ
ہمیں ہدایت دے	اِهْدِنَا	اِهْدِنَا
تو نے انعام کیا	اَنْعَمْتَ	اَنْعَمْتَ
غضب نازل ہوا	ال + مَغْضُوبِ	الْمَغْضُوبِ
گمراہ ہوئے	ال + ضَالِّينَ	الضَّالِّينَ

ROOTWORDS OF SURAH AL BAQARAH 1-5

کتاب	ال + كِتَابُ	الْكِتَابُ
اس میں / جس میں	فِي + هِ	فِيهِ
ہدایت	هُدًى	هُدًى
پرہیز گاروں کے لیے	لِ + لُ + مُتَّقِينَ	لِلْمُتَّقِينَ
ایمان لاتے ہیں	يُؤْمِنُونَ	يُؤْمِنُونَ
بن دیکھے پر	بِ + ال + غَيْبِ	بِالْغَيْبِ
وہ قائم کرتے ہیں	يُقِيمُونَ	يُقِيمُونَ

نماز	ال+صَلَاة	الصَّلَاة
اس میں سے جو	مِنْ+مَا	مِمَّا
جو کچھ دیا ہم نے انہیں	رَزَقَ+ نَا+هُمْ	رَزَقْنَاهُمْ
وہ خرچ کرتے ہیں	يُنْفِقُ+وَنَ	يُنْفِقُونَ
وہ ایمان لاتے ہیں	يُؤْمِنُ+وَنَ	يُؤْمِنُونَ
ساتھ اس کے جو	بِ+مَا	بِمَا
طرف آپ کی	إِلَى+كَ	إِلَيْكَ
پہلے آپ سے	قَبْلَ+كَ	قَبْلِكَ
ساتھ آخرت کے	بِ+ال+آخِرَةِ	بِالْآخِرَةِ
وہ یقین رکھتے ہیں	يُوقِنُ+وَنَ	يُوقِنُونَ
رب کے اپنے	رَبِّ+هُمْ	رَبِّهِمْ
فلح پانے والے ہیں	ال+مُفْلِحُونَ	الْمُفْلِحُونَ
ROOTWORDS OF SURAH AL BAQARAH 6-13		
اوپر اُن کے	عَلَى+هُمْ	عَلَيْهِمْ
خواہ ڈرائیں آپ اُن کو	ءَ+أَنْذَرُ+تَ+هُمْ	ءَأَنْذَرْتَهُمْ
مہر لگادی	خَتَمَ	خَتَمَ
دل ان کے	قُلُوبَ+هُمْ	قُلُوبِهِمْ
کان ان کے	سَمِعَ+هُمْ	سَمِعِهِمْ
آنکھوں ان کی	أَبْصَارَ+هُمْ	أَبْصَارِهِمْ

پر دہ	غِشَاوَةٌ	غِشَاوَةٌ
لیے ان کے	لَ + هُمْ	لَهُمْ
ایمان لائے ہم	أَمَنَ + نَا	أَمَنَّا
وہ دھوکا دیتے ہیں	يُخَادِعُ + وَنَ	يُخَادِعُونَ
اپنے آپ ہی کو	أَنفُسَ + هُمْ	أَنفُسَهُمْ
وہ سمجھتے ہیں	يَشْعُرُ + وَنَ	يَشْعُرُونَ
پس بڑھادی ان کی	فَ + زَادَ + هُمْ	فَزَادَهُمْ
اور لیے ان کے	وَ + لَ + هُمْ	وَلَهُمْ
وہ جھوٹ بولتے	يَكْذِبُ + وَنَ	يَكْذِبُونَ
تم فساد کرو	تُفْسِدُ + وَا	تُفْسِدُوا
بے شک وہ	إِنَّ + هُمْ	إِنَّهُمْ
فساد کرنے والے ہیں	الْ + مُفْسِدُونَ	الْمُفْسِدُونَ
جس طرح / جیسا کہ	كَ + مَا	كَمَا
کیا ہم ایمان لائیں	أَ + نُؤْمِنُ	أَنُؤْمِنُ
بے وقوف	الْ + سَفْهَاءُ	السَّفْهَاءُ
وہ علم رکھتے ہیں	يَعْلَمُ + وَنَ	يَعْلَمُونَ

ROOTWORDS OF SURAH AL BAQARAH 14-20

وہ ملتے ہیں	لَقِيَ + وَا	لَقُوا
-------------	--------------	--------

وہ اکیلے ہوتے ہیں	خَلَّوْا	خَلَّوْا
ساتھ ہیں تمہارے	مَعَكُمْ	مَعَكُمْ
ہنسی کرنے والے ہیں	مُسْتَهْزِئُونَ	مُسْتَهْزِئُونَ
ڈھیل دیتا ہے انہیں	يَمُدُّهُمْ	يَمُدُّهُمْ
سرکشی ان کی	طُغْيَانِهِمْ	طُغْيَانِهِمْ
وہ حیران ہیں	يَعْمَهُونَ	يَعْمَهُونَ
تو نہ / پس نہیں	فَمَا	فَمَا
سود مند / نفع دیا	رَبِحَتْ	رَبِحَتْ
تجارت ان کی	تِجَارَتُهُمْ	تِجَارَتُهُمْ
ہدایت پانے والے	مُهْتَدِينَ	مُهْتَدِينَ
مثال ان کی / مانند مثال	مَثَلُهُمْ // كَمَثَلِ	مَثَلُهُمْ // كَمَثَلِ
جس نے جلائی	اسْتَوْقَدَ	اسْتَوْقَدَ
روشن کر دیا	أَضَاءَتْ	أَضَاءَتْ
آس پاس اس کے	حَوْلَهُ	حَوْلَهُ
بجھادی / زائل کر دی	ذَهَبَ	ذَهَبَ
روشنی ان کی	بُنُورِهِمْ	بُنُورِهِمْ
چھوڑا انہیں	تَرَكَهُمْ	تَرَكَهُمْ
وہ دیکھتے ہیں	يُبْصِرُونَ	يُبْصِرُونَ

بہرے ہیں	صَمَّ	صَمَّ
گونگے ہیں	بُكِمَ	بُكِمَ
اندھے ہیں	عُمِيَ	عُمِيَ
وہ لوٹیں گے	يَرْجِعُونَ	يَرْجِعُونَ
جیسا کہ بارش ہو	كَ+صَيَّبَ	كَصَيَّبَ
کڑک / گرج	رَعَدَ	رَعَدَ
بجلی	بَرَقَ	بَرَقَ
وہ ٹھونس لیتے ہیں / دے لیں	يَجْعَلُونَ	يَجْعَلُونَ
انگلیاں اپنی	أَصَابِعَهُمْ	أَصَابِعَهُمْ
کان اپنے	آذَانِ+هُمْ	آذَانِهِمْ
کڑک	ال+صَوَاعِقِ	الصَّوَاعِقِ
اندیشہ / ڈر سے	حَذَرَ	حَذَرَ
احاطہ میں لیے ہوئے ہیں	مُحِيطٌ	مُحِيطٌ
قریب ہے	يَكَادُ	يَكَادُ
بجلی (کی چمک)	ال+بَرَقُ	الْبَرَقُ
اچک لے جائے	يَخْطَفُ	يَخْطَفُ
بصارت ان کی	أَبْصَارَ+هُمْ	أَبْصَارَهُمْ

كُلَّمَا	كُلَّمَا	جب کبھی
أَضَاءَ	أَضَاءَ	روشن کی / چمکتی ہے
لَهُمْ	لَ+هُمْ	لیے ان کے
مَشَوْا	مَشَ+وَا	چلتے ہیں
وَإِذَا	وَ+إِذَا	اور جب
قَامُوا	قَامَ+وَا	ٹھہر جاتے ہیں
لَذَهَبَ	لَ+ذَهَبَ	ضرور لے جائے
بِسْمَعِهِمْ	بِسْمَعِ+هُمْ	سماعت ان کی

ROOTWORDS OF SURAH AL BAQARAH 21-25

فِرَاشًا	فِرَاشًا	بچھونا / ہموار
بِنَاءَ	بِنَاءَ	چھت
فَأَخْرَجَ	فَ+أَخْرَجَ	پھر نکالے / پیدا کئے
تَجَعَّلُوا	تَجَعَّلُوا	تم بناؤ / ٹھہراؤ
أَنْدَادًا	أَنْدَادًا	شریک
نَزَّلْنَا	نَزَّلْنَا	نازل کیا ہم نے
فَأَتُوا	فَ+أَتُوا	پس لاؤ

توڈرو	فَ+اَتَّقُ+وَا	فَاتَّقُوا
ایندھن جس کا	وَقُوْدُ+هَا	وَقُوْدُهَا
نیچے ان کے	تَحْتَ+هَا	تَحْتِهَا
ہم شکل / ملتا جلتا	مُتَشَابِهًا	مُتَشَابِهًا
ROOTWORDS OF SURAH AL BAQARAH 26-30		
شرماتا / حیا فرماتا	يَسْتَحْيِي	يَسْتَحْيِي
وہ بیان کرے	يَضْرِبُ	يَضْرِبُ
مچھر کی	بَعُوْضَةً	بَعُوْضَةً
سوجو	فَ+مَا	فَمَا
اوپر اسکے	فَوْقَ+هَا	فَوْقَهَا
کیا	مَاذَا	مَاذَا
وہ توڑ دیتے ہیں	يَنْقُضُ+وَنَ	يَنْقُضُونَ
پختہ کرنے اسکے	مِثَاقٍ+هِ	مِثَاقِهِ
اور وہ قطع کرتے ہیں	وَيَقْطَعُ+وَنَ	وَيَقْطَعُونَ
جوڑنے کا	يُوصِلُ	يُوصِلُ
وہ فساد کرتے ہیں	يُفْسِدُ+وَنَ	يُفْسِدُونَ

تھے تم	كُن + تُمْ	كُنْتُمْ
پھر زندہ کیا تمہیں	فَ + أَحْيَا + كُمْ	فَأَحْيَاكُمْ
وہ موت دے گا تم کو	يُمِيتُ + كُمْ	يُمِيتُكُمْ
وہ زندہ کرے گا تم کو	يُحْيِي + كُمْ	يُحْيِيكُمْ
طرف اسی کی	إِلَى + هِ	إِلَيْهِ
تم لوٹاؤ جاؤ گے۔	تُرْجَعُ + وْنَ	تُرْجَعُونَ
متوجہ ہوا	اسْتَوَى	اسْتَوَى
پھر برابر کر دیا انکو	فَ + سَوَّاهُنَّ	فَسَوَّاهُنَّ
کیا بنائے گا تو	أَ + تَجْعَلُ	أَتَجْعَلُ
وہ بہائے گا	يَسْفِكُ	يَسْفِكُ
خون	ال + دِمَاءَ	الدِّمَاءَ
ہم تسبیح کرتے ہیں	نُ + سَبِّحْ	نُسَبِّحُ
ساتھ حمد کے تیری	بِ + حَمْدِكَ	بِحَمْدِكَ
ROOTWORDS OF SURAH AL BAQARAH 31-39		
پیش کیا ان کو	عَرَضَ + هُمْ	عَرَضَهُمْ

پھر فرمایا	فَ+قَالَ	فَقَالَ
بتاؤ مجھے	أَنْبِئْ+و+نِي	أَنْبِئُونِي
سکھایا تو نے ہمیں	عَلَّمَ+ت+نَا	عَلَّمْتَنَا
بتاؤ ان کو // بتا دیئے ان کو	أَنْبِئْ+هُمْ//أَنْبَأْ+هُمْ	أَنْبِئْهُمْ//أَنْبَأْهُمْ
کیا نہیں	أَ+لَمْ	أَلَمْ
تم ظاہر کرتے ہو	تُبْدُ+وَنَ	تُبْدُونَ
تم چھپاتے ہو	تَكْتُمُ+وَنَ	تَكْتُمُونَ
بیوی تمہاری	زَوْجُ+كَ	زَوْجُكَ
کھاؤ تم دونوں	كُلْ+ا	كُلَا
شوق سے	رَغَدَا	رَغَدَا
جہاں سے چاہو	حَيْثُ	حَيْثُ
جو چاہو تم دونوں	شَيْءٌ+ثُمَا	شَيْئُثُمَا
نزدیک جانا تم دونوں	تَقْرَبْ+ا	تَقْرَبَا
پھر ہو جاؤ گے تم دونوں	فَ+تَكُونُ+ا	فَتَكُونَا
پھر پھسلا دیا دونوں کو	فَ+أَزَلَّ+هُمَا	فَأَزَلَّهُمَا

پس نکلوا دیا ان دونوں کو	فَأَخْرَجَ+هُمَا	فَأَخْرَجَهُمَا
تھے وہ دونوں	كَانَ+ا	كَانَا
اتر جاؤ	اهْبِطُوا	اهْبِطُوا
بعض تمہارے // لیے بعض کے	بَعْضُ+كُمُ // لِبَعْضٍ	بَعْضُكُمْ // لِبَعْضٍ
پس سیکھ لیے	فَ+تَلَقَّيْ	فَتَلَقَّيْ
پھر مہربان ہوا	فَ+تَابَ	فَتَابَ
پھر اگر	فَ+إِمَّا	فَإِمَّا
آجائے تمہارے پاس	يَأْتِي+نَّ+كُمُ	يَأْتِيَنَّكُمْ
طرف سے میری	مِّنْ+نِي	مِّنِّي
ہدایت // // ہدایت میری	هُدًى // هُدًى+ي	هُدًى // هُدًى
پس جو	فَ+مَنْ	فَمَنْ
وہ غمگین ہونگے	يَحْزَنُ+وْنَ	يَحْزَنُونَ
وہ جھٹلائیں گے	كَذَّبُوا	كَذَّبُوا
آیتوں کو ہماری	بِ+آيَاتِنَا	بِآيَاتِنَا

ROOTWORDS OF SURAH AL BAQARAH 40-48

نعمت میری / احسان	نِعْمَتِ+ي	نِعْمَتِي
-------------------	------------	-----------

انعام کیا میں نے	أَنْعَمْتُ	وَأَوْفُوا
اور پورا کرو	وَأَوْفُوا	بِعَهْدِي
عہد میرا	بِعَهْدِي	بِعَهْدِكُمْ
عہد کو تمہارے	بِعَهْدِكُمْ	فَأَرْهَبُونَ
پس ڈرو مجھ سے	فَأَرْهَبُونَ	أَنْزَلْتُ
نازل کی میں نے	أَنْزَلْتُ	تَشْتَرُوا
تم خریدو / لو	تَشْتَرُوا	بِأَيْتِي
بدلے آیتوں کے میری	بِأَيْتِي	ثَمَنًا
قیمت	ثَمَنًا	تَلْبَسُوا
تم ملاؤ	تَلْبَسُوا	بِالْبَاطِلِ
ساتھ ناحق کے	بِالْبَاطِلِ	تَكْتُمُوا
تم چھپاؤ	تَكْتُمُوا	أَتَأْمُرُونَ
کیا تم حکم کرتے ہو	أَتَأْمُرُونَ	بِالْبَرِّ
ساتھ نیکی کے	بِالْبَرِّ	تَتْلُونَ
تم تلاوت کرتے ہو	تَتْلُونَ	أَفَلَا
کیا پس نہیں	أَفَلَا	

مدد لیا کرو	أَسْتَعِينُ+وَأُ	أَسْتَعِينُوا
ساتھ صبر کے	بِ+الصَّبْرِ	بِالصَّبْرِ
اور بے شک وہ	وَ+إِنَّ+هَآ	وَإِنَّهَا
البتہ مشکل ہے	لَ+كَبِيرَةٌ	لَكَبِيرَةٌ
عاجزی کرنے والے	أَلَّ+خَاشِعِينَ	الْخَاشِعِينَ
وہ یقین رکھتے ہیں	يَظُنُّ+وَنَ	يَظُنُّونَ
لیا جائے گا	يُؤْخَذُ	يُؤْخَذُ

ROOTWORDS OF SURAH AL BAQARAH 49-59

نجات دی ہم نے تمہیں	نَجَّيْنَا+كُم	نَجَّيْنَاكُمْ
وہ دکھ دیتے تھے تم کو	يَسُومُونَ+كُم	يَسُومُونَكُمْ
وہ ذبح کرتے تھے	يُذَبِّحُ+وَنَ	يُذَبِّحُونَ
بیٹوں کو تمہارے	أَبْنَاءَ+كُم	أَبْنَاءَكُمْ
وہ زندہ رکھتے تھے	يَسْتَحْيِي+وَنَ	يَسْتَحْيُونَ
عورتوں کو تمہاری	نِسَاءَ+كُم	نِسَاءَكُمْ
شق کر دیا / پھاڑا ہم نے	فَرَّقَ+نَا	فَرَّقْنَا

غرق کر دیا ہم نے	أَغْرَقْنَا	غَرَقْنَا
بچھڑے کو	الْعَجَلِ	عَجَلَ
معاف کر دیا ہم نے	عَفَوْنَا	عَفَا
بوجہ بنانے کے تمہارے	بِاتِّخَاذِكُمْ	اتَّخَذَ
پیدا کرنے والے کو اپنے	بَارِئِكُمْ	بَرَأَ
روبرو / سامنے / علانیہ	جَهْرَةً	جَهَرَ
پھر اٹھایا ہم نے تم کو	بَعَثْنَاكُمْ	بَعَثَ
سایہ کیا ہم نے	ظَلَّلْنَا	ظَلَّلَ
بادلوں کا	الْغَمَامِ	غَمَمَ
بخش دے	حِطَّةً	حَطَّ
وہ نافرمانیاں کرتے تھے	يَفْسُقُونَ	فَسَقَ

ROOTWORDS OF SURAH AL BAQARAH 60-64

مانگاپانی	اسْتَسْقَى	اسْتَسْقَى
سے لاٹھی اپنی	بِعَصَاكَ	عَصَاكَ
پھر بہہ نکلے / پھوٹ نکلے	فَانْفَجَرَتْ	انْفَجَرَ

اِثْنَا عَشْرَةَ	اِثْنَتَا + عَشْرَةَ	بارہ
مَشْرَبَهُمْ	مَشْرَبَ + هُمْ	گھاٹ / پینے کی جگہ + اپنی
تَعْتَوْا	تَعْتَّ + وَا	تم فساد مچاتے پھرو
بَقْلَهَا	بَقْلَ + هَا	ساگ اس کا
قِتَائِهَا	قِتَائٍ + هَا	ککڑی اس کی
فُومِهَا	فُومَ + هَا	لہسن اس کا
عَدَسِهَا	عَدَسٍ + هَا	مسور اس کی
بَصَلِهَا	بَصَلَ + هَا	پیاز اس کی
أَتَسْتَبْدِلُونَ	أُ + تَسْتَبْدِلُ + وْنَ	کیا تم اس چیز کو لینا چاہتے ہو
سَأَلْتُمْ	سَأَلَ + تُمْ	مانگتے ہو تم
يَعْتَدُونَ	يَعْتَدُ + وْنَ	وہ حد سے بڑھ جاتے تھے

ROOTWORDS OF SURAH AL BAQARAH 65-74

السَّبْتِ	ال + سَبَّ + تِ	ہفتہ کے دن
قِرْدَةً	قِرْدَةً	بندر

خَاسِنِينَ	خَاسِنِينَ	ذلیل و خوار
نَكَالًا	نَكَالًا	عبرت

آگے ان کے	يَدِي + هَا	يَدِيهَا
پچھلے ان کے	خَلْف + هَا	خَلْفَهَا
تم ذبح کرو	تَذْبَحُوا	تَذْبَحُوا
بوڑھی	فَارِض	فَارِض
جوان	بِغْر	بِغْر
میانہ عمر	عَوَان	عَوَان
رنگ اس کا	لَوْن + هَا	لَوْنُهَا
زرد	صَفْرَاءُ	صَفْرَاءُ
گہرا زرد / چمکیلا	فَاقِع	فَاقِع
خوش کر دیتا ہو	تَسْرُّ	تَسْرُّ
محنت کرنے والی	ذَلُول	ذَلُول
جوتی	تُثِيرُ	تُثِيرُ
پانی دیتی ہو	تَسْقِي	تَسْقِي
کھیتی کو	ال + حَرَث	الْحَرَث
کوئی داغ	شِيَّة	شِيَّة

فَادَارَ أَتُمْ	فَ+دَارَ+أَتُمْ	پھر باہم جھگڑنے لگے تم
تَكْتُمُونَ	تَكْتُمُ+وَنَ	تم چھپاتے تھے
اضْرِبُوهُ	اضْرِبُ+و+هُ	مارو اس کو
يُرِيكُمْ	يُرِي+كُمْ	وہ دکھاتا ہے تم کو
كَالْحِجَارَةِ	كَ+الْ+حِجَارَةِ	مانند پتھر کے
قَسْوَةً	قَسْوَةً	سخت
الْمَاءِ	الْ+مَاءِ	پانی
يَهْبِطُ	يَهْبِطُ	گر پڑتے ہیں

ROOTWORDS OF SURAH AL BAQARAH 75-78

أَفْتَطْمَعُونَ	أَف+ف+تَطْمَعُ+وَنَ	کیا پھر تم امید / طمع رکھتے ہو
يُحَرِّفُونَهُ	يُحَرِّفُ+وَنَ+هُ	وہ بدل ڈالتے ہیں اسے
أَتُحَدِّثُونَهُمْ	أَ+تُحَدِّثُ+وَنَ+هُمْ	کیا تم بتا دیتے ہو ان کو
لِيُحَاجُّوكُمْ	لِ+يُحَاجُّ+و+كُمْ	تاکہ وہ جھگڑا کریں تم سے
يُسِرُّونَ	يُسِرُّ+وَنَ	وہ چھپاتے ہیں
يُعْلِنُونَ	يُعْلِنُ+وَنَ	وہ ظاہر کرتے ہیں

Pravda